

ایصالِ ثواب بالقرآن

قرآن مجید کی تلاوت کا ایصالِ ثواب برحق ہونے
کے ثبوت پر ایک تحقیقی مقالہ

تحریر

مولانا محمد سید الطہر صاحب مدرستہ اسلامیہ دہلی

تصحیح و ترتیب

مولانا محمد عبد القوی

ناشر: ادارۃ اشرف العالِم
۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲
سٹریٹ
حیدرآباد

ایصالِ ثواب بالقرآن

قرآن مجید کی تلاوت کا ایصالِ ثواب برحق ہونے
کے ثبوت پر ایک تحقیقی مرقعہ



مولانا محمد سید الطہر صاحب مہتمم انگریزی لٹریچر



مولانا محمد عبد القوی

(ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد)

ناشر: اشرف العلوم حیدرآباد

پیش لفظ

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظلہ
(ناظم المعهد العالی الاسلامی حیدرآباد)

اصل اجر و ثواب تو ہر انسان کو اس عمل کا ملتا ہے جس کو وہ خود انجام دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص اور اپنے بندوں کے ساتھ رحم و درگزر ہے کہ ایک شخص کی دعا دوسرے کے حق میں اور ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے مقبول اور لائق اجر ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ ایک شخص کی دعا دوسرے کو کام آتی ہے، اس پر بھی اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ ایک شخص کی مالی عبادت کا ثواب دوسرے کو ایصال کیا جاسکتا ہے، بدنی عبادت میں حج و عمرہ کی بابت بھی اتفاق ہے کہ اس کے ذریعے ایصال ثواب درست ہے، خالص بدنی عبادت مثلاً تلاوت قرآن اور نماز، روزہ وغیرہ کے ذریعہ گواہام شافعی کے نزدیک ایصال ثواب درست نہیں، لیکن چونکہ اس پر بکثرت احادیث منقول ہیں، اس لیے جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک خالص بدنی عبادت کے ذریعے بھی ایصال ثواب درست ہے، اور فقہاء شوافع میں بھی متأخرین اور محقق اہل علم نے جمہور ہی کے نقطہ نظر کو اختیار کیا ہے، خود ہندوستان میں جماعت غیر مقلدین کے وہ علماء جو اس گروہ کے سرخیل کہے جاسکتے ہیں، انہوں نے بھی اعمال بدنیہ سے ایصال ثواب کے ثبوت کو تسلیم کیا ہے، جن میں نواب صدیق حسن خان اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

ایصال ثواب کے مسئلہ میں فی زمانہ عجیب افراط و تفریط کی کیفیت ہے، کچھ لوگ سرے سے ایصال ثواب کے قائل ہی نہیں، اور ایک ایسی حقیقت کے منکر ہیں جو متعدد مقبول احادیث سے ثابت

تفصیلات طباعت

نام کتاب : ایصال ثواب بالقرآن

تحریر : مولانا محمد اطہر صاحب کریم نگری

تصحیح و ترتیب : مولانا محمد عبدالقوی

صفحات : 40

قیمت : 20/- روپے

کمپوزنگ : عزیز گرافکس، عیدی بازار، حیدرآباد 9030735447

ناشر : برکات بکڈپو، ادارہ اشرف العلوم خواجہ باغ سعید آباد حیدرآباد

ملنے کے پتے

- ◆ مکتبہ فیض ابرار متصل مسجد اکبری اکبر باغ، حیدرآباد (اے پی) 040-65709414
- ◆ دکن ٹریڈرز، نزد مغل پورہ پانی کی ٹنکی، حیدرآباد (اے پی) 040-66710230
- ◆ ہندوستان پیپر اینڈ پوسٹل، نزد ہوٹل شہران، حیدرآباد (اے پی) 9246543507
- ◆ مکتبہ کلیمیہ یوسفین چوراستہ، نام پلی، حیدرآباد (اے پی) 9885655591
- ◆ محمود بکڈپو، ہنس روڈ، بنگلور۔ (کرناٹک) 9845176837
- ◆ اسلامک ویژن آفس۔ ۸۴ آرم اسٹراٹگ روڈ بنگلور (کرناٹک) 080-25364530
- ◆ قاسمی کتب خانہ، صفا کاپلکس، سدا شو انگر، بنگلور (کرناٹک) 9886252547
- ◆ مدرسہ خیر المدارس، چودھری نگر، لاٹور (مہاراشٹر) 9421956690

ہے، دوسری طرف کچھ لوگوں نے ایصالِ ثواب کو آیات اللہ کی خرید و فروخت کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اس کی باضابطہ تجارت کی جاتی ہے، پیسے لے کر اور دعوتوں کی شرط پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس کو ایصالِ ثواب کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ ایصالِ ثواب، ”ثواب پہنچانے“ کا نام ہے، اور کوئی عمل اسی وقت باعثِ اجر و ثواب بنتا ہے، جب وہ اخلاص پر مبنی ہو، نہ کہ طمع و حرص پر، جب قرآن ماذی معادضہ کے بدلے پڑھا جائے، تو وہ خود کارِ ثواب نہیں، اور جو خود کارِ ثواب نہیں، وہ کیوں کر دوسروں کے لیے نافع بن سکتا ہے؟

علماء حق نے ہمیشہ اس افراط و تفریط سے اپنا دامن بچایا ہے، اور عدل و اعتدال کی راہ اختیار کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعا عباداتِ مالیہ اور عباداتِ بدنیہ تینوں طریقوں پر ایصالِ ثواب ثابت ہے، بشرطیکہ ان افعال کو احکام شریعت کے مطابق انجام دیا جائے، اور کتاب اللہ کی خرید و فروخت نہ کی جائے لگے — محی فی اللہ مولانا محمد اطہر صاحب جو ایک قدیم مؤقر اور مستند دینی درسگاہ دارالعلوم اشرفیہ راندیر (گجرات) کے فاضل ہیں، اور نظام آباد میں دین اور علم کی خدمت میں مشغول ہیں — نے اس اہم موضوع پر قلم اٹھایا ہے، اور اس مسئلہ کے سلسلے میں جو افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اس کا رد کیا ہے، خاص طور پر اس زمانے کے غیر مقلد حضرات اس تحریر کے مخاطب ہیں، امید ہے کہ عزیز موصوف کی یہ تحریر اس سلسلے میں شکوک و شبہات کے کانٹے نکالنے میں مؤثر اور مفید ثابت ہوگی، اور عوام و خواص دونوں کو اس سے نفع پہنچے گا، بحمد اللہ اس رسالہ میں زیر بحث مسئلہ سے متعلق خاصا مواد جمع ہو گیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحبِ تحریر سے بیش از بیش علم اور دین کی خدمت لیں، اور ان کا قلم کبھی تعب و تھکن سے آشنا نہ ہو، وباللہ التوفیق وهو المستعان۔

خالد سیف اللہ رحمانی

تقریظ

استاذ الاساتذۃ حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ
(سابق امام و خطیب جامع مسجد نظام آباد)

میں نے اس مضمون کو از اول تا آخر ملاحظہ کیا ہے یہ مضمون اس ضرورت کی خاطر تالیف کیا گیا ہے کہ ایصالِ ثواب کے مسئلے میں تشویش ختم ہو کر اطمینان و تسلی مستند حوالہ جات کے ذریعہ حاصل ہو جائے، اگر مکرر ایصالِ ثواب بالقرآن الکریم یا مانعین کو اس میں کچھ بھلائی اور خیر محسوس ہو تو ”خذ ما صفا ودع ما کدر“ پر عمل کرنا چاہیے، البتہ زندہ موجود لوگوں کو ایصالِ ثواب کرنے والوں کے بھروسے پر ترک عمل ہرگز ہرگز نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ترک فرض سے جو خسارہ ہوگا اس کی تلافی محال ہے، نوافل و سنن کی کمی یا مکروہات و صغائر کی معافی کے لیے ایصالِ ثواب کا انتظار علیحدہ بات ہے، مگر اپنی اصلی آخرت کی کھتی کو اس لیے خالی چھوڑ دینا کہ شاید لوگ بعد میں بیچ ڈال دینگے یا کچھ بھیک ڈال دینگے بہت بڑی نادانی ہے، یہ کتاب اپنے مرحومین کے لیے ایصالِ ثواب کا صحیح راستہ بتانے کے لیے ہے (ایصالِ ثواب کے بھروسہ پر خود کو عمل سے غافل کرنے کے لیے نہیں) کیونکہ طریقہ صحیح نہ ہوگا تو ہر دو کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا لہذا اس میں سستی رائیگاں نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ اس کو انتہائی متانت و سنجیدگی سے مطالعہ کیا جائیگا اور جو غلطی محسوس ہو اس کی اطلاع مؤلف کو فرمادیں تاکہ بعد غور و تحقیق تصحیح و مراجعت کر لی جائے۔

نقطہ والسلام علی من اتبع الهدی

عطاء الرحمن

تقریظ

حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی دامت فیوہم
(ناظم مدرسہ مظہر العلوم نظام آباد)

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم..... اما بعد

موجودہ دور میں بعض گوشوں سے چند ایسے مسائل کو بہت شد و مد کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے جن کا وجود خیر القرون اور اس کے بعد کے زمانوں میں نہیں ملتا ہے، جبکہ ہر زمانہ میں علماء اسلام نے صحیح صحیح مسائل امت کے سامنے پیش کردئے ہیں، ان نئے مسائل میں ایک مسئلہ ایصالِ ثواب بالقرآن کا ہے، آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ ایصالِ ثواب کوئی چیز نہیں ہے، اور بعض لوگ ایصالِ ثواب کے تو قائل ہیں مگر تلاوتِ قرآن کے ذریعے ایصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں، فاضل عالم دین جناب مولانا اطہر صاحب زید مجدہم جنہیں اللہ نے علمی قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ صالحیت کا وافر حصہ عنایت فرمایا ہے قرآن و حدیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں بڑے دلنشین اور موثر انداز میں اس مسئلے کا ثبوت پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید قوی بلکہ یقین کامل ہے کہ اس سے عام مسلمانوں کو نفع ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو عام مسلمانوں اور خود مصنف کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد۔

سید ولی اللہ قاسمی

ایصالِ ثواب کا عقیدہ برحق اور اجماعی ہے

حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم
(ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد)

اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ ”ایصالِ ثواب“ کا بھی ہے، معتزلہ اس کے سرے سے منکر ہیں، اہل السنۃ والجماعۃ اس کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں کہ کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اس کے عزیز و اقرباء یا کوئی بھی مسلم اپنی سعی و عمل کا ثواب اس کو بخش دینا چاہے تو بخش دے۔ امام ابو جعفر طحاویؒ اس سلسلہ میں اپنی شہرہ آفاق کتاب ”العقیدۃ الطحاوی“ میں اہل اسلام کا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وفی دعاء الاحیاء و صدقتہم منفعة زئدہ لوگوں کی دعاؤں اور ان کے صدقات کا نفع مردوں کو پہنچتا ہے۔
للأموات. (ص: ۱۳۳)

اس کی تشریح میں حکیم الاسلام فرماتے ہیں:

اتفق اہل السنۃ علی ان الاموات یتنفعون من سعی الاحیاء بطریق عدیدۃ. (ایضاً علی الہامش)

اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ مردوں کو متعدد طریقوں سے زندوں کی سعی و عمل کا نفع پہنچ سکتا ہے۔

امام نووی شافعی رحمہ اللہ نے مقدمہ صحیح مسلم کی شرح میں ایک مسئلے کی تشریح کرتے ہوئے ضمناً اس عقیدہ پر بھی روشنی ڈالی ہے:

اما قوله ”لیس فی الصدقة اختلاف“ امام مسلم کا یہ فرمانا کہ صدقہ کے مفید للمیت فمعناه ان هذا الحدیث لا یحتج بہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، تو اس کے معنی یہ

ولكن من اراد بر والديه فليصدق
عنهما، فان الصدقة تصل الى الميت
ويستفح بهما بلا خلاف بين المسلمين،
لهذا هو الصواب واما ما حكاه اقصي
القضاة ابو الحسن ما وردى البصرى
الفقيه الشافعى فى كتابه "الحاوى"
عن بعض اصحاب الكلام من ان
الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو
مذهب باطل قطعاً وخطأ بين مخالف
لنصوص الكتاب والسنة واجماع
الامة فلا التفات اليه ولا تعريج عليه.
(مسلم بشرح النووى ۱/۸۰)

ہیں کہ اگرچہ اس حدیث سے اس پر استدلال
صحیح نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ تمام مسلمانوں
کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی والدین سے
مرنے کے بعد حسن سلوک کرنا چاہے تو اس کو
چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کرے، اس لیے کہ
صدقہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور وہ اس
سے منتفع ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور وہ
جو قاضی ابوالحسن ماوردی نے اپنی کتاب الحاوی
میں بعض اہل کلام سے نقل کیا ہے کہ میت کو
اس کی موت کے بعد کوئی ثواب نہیں پہنچ
سکتا تو ان کا یہ قول قطعی طور پر باطل اور بالکل
واضح غلطی ہے، نیز کتاب وسنت کے نصوص اور
اجماع امت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے
نا قابل التفات و توجہ ہے۔

امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں آیت شریفہ **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** کے تحت "المسئلة السابعة" میں حج بدل کے احکام بیان کرتے ہوئے اس عقیدہ پر اجماع کا ذکر کیا ہے:

ففى هذا ما يدل على انه من باب
التطوعات وايصال البر والخيرات
للاموات، الا ترى انه قد شبه فعل
الحج بالدين، وبالاجماع لو مات
ميت وعليه دين لم يجب على وليه

اس حدیث میں — کہ آپ نے سائل سے
فرمایا: اگر تمہارے مرحوم والد پر قرض ہوتا اور تم
ادا کرتے تو کیا ادا نہ ہوتا؟ — اس بات کی
دلیل ہے کہ یہ عمل نفل کاموں کے ایصالِ ثواب
کے باب سے ہے، دیکھئے آپ نے حج کے

قضاءه من ماله، فان تطوع بذلك
تاوى الدين عنه. (قرطبي ۳/۱۱۷)

عمل کو قرض سے تشبیہ دی (اور فرمایا کہ جس
طرح میت کی طرف سے اس کا قرض ادا کرنے
سے ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی جانب
سے حج کیا جائے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا) جب
کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ وہ
مقروض میت کے اولیاء پر لازم نہیں ہے کہ
اپنے مال سے اس کا قرض ادا کر دیں، (پھر بھی)
اگر کسی نے ادا کر دیا تو ادا ہو جاتا ہے۔

امام علی ابن ابی العزیز مشقی فرماتے ہیں:

اتفق اهل السنة ان الاموات ينتفعون
من سعي الاحياء بامرین ، احدهما : ما
تسبب اليه الميت فى حياته والثانى :
دعاء المسلمين لهم واستغفارهم له،
والصدقة ، والحج وذهب بعض
اهل البدع من اهل الكلام الى عدم
وصول شىء البتة لا الدعاء ولا غيره
فقولهم مردود بالكتاب والسنة.

اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردے
زندوں کے عمل سے دو طرح منتفع ہو سکتے ہیں،
ایک ان ذرائع سے جن کے اسباب انہوں
نے خود اپنی زندگی میں بنائے ہوں، دوسرے
مسلمانوں کی اپنی طرف سے کی جانے والی دعا،
استغفار، صدقہ خیرات اور حج وغیرہ کے ذریعہ
..... (اس سلسلہ میں جزئی اختلاف کا ذکر نے
کے بعد لکھتے ہیں) اور بعض بدعتی لوگ کہتے
ہیں کہ کسی قسم کا انتفاع زندوں سے مردوں کو
نہیں ہو سکتا، نہ دعا سے نہ کسی اور عمل سے تو
ایسے لوگوں کا قول کتاب وسنت کی روشنی میں
مردود اور نا قابل قبول ہے۔

(شرح العقيدة الطحاوية ص: ۳۶۹)

آگے فرماتے ہیں کہ) پہلی صورت یعنی اپنی زندگی میں اپنی سستی سے اختیار کردہ ذرائعِ ثواب

سے مرنے کے بعد فائدہ اٹھا سکتا تو اس کے ثبوت میں وہ روایت کافی ہے جو امام مسلم اور دیگر محدثین نے اپنی سند سے نقل فرمائی ہے:

اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من
ثلاث صدقة جارية، او ولد صالح
يدعو له، او علم ينتفع به بعده.
آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین اعمال کے (۱) صدقہ جاریہ (۲) نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اور (۳) اس کا وہ علم جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی مستفید ہوتے رہیں۔

اور دوسری صورت یعنی ان اعمال کے ذریعہ بھی میت کو ثواب پہنچا سکتا جو محض دوسروں کا عمل ہے تو اس کا ثبوت بھی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس صحیح ہر چہ چار اصول دین میں موجود ہے، (اس کے بعد انہوں نے متعدد دلائل نقل کئے ہیں، یہاں ان میں سے صرف ایک ایک مثال نقل کی جا رہی ہے۔)

کتاب اللہ سے ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

• والذین جاء وامن بعده يقولون
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا
پروردگار! ہماری مغفرت فرما اور ان لوگوں کی
بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے
ساتھ گذر چکے ہیں۔
(الحشر: ۱۰)

حق تعالیٰ نے اس میں مردہ مسلمانوں کے لیے زندوں کی دعا کی تعریف فرمائی ہے، اگر ان کا یہ عمل مقبول و معتبر نہ ہوتا تو قرآن کریم میں اس کی تعریف کئے جانے کے کیا معنی؟
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کے لیے اس حدیث کو ملاحظہ کر لیجئے جیسے امام ابوداؤد نے سنن صحیح کے ساتھ حضرت عثمان غنیؓ سے روایت کیا ہے:

• كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:
جب نبی کریم ﷺ کسی میت کی تدفین سے
فارغ ہو جاتے تو ہاں تھوڑی دیر ٹھہرتے اور

استغفروا لاخیکم، واسألوا له التثبيت، فرماتے: اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے

(ابوداؤد، کتاب الجنائز، سند صحیح) استقامت طلب کرو، کیونکہ یہ وقت اس کے سوال و جواب کا وقت ہے۔

• اجماع امت کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ سے لے کر آج تک امت بلا اختلاف مردوں پر نماز جنازہ پڑھتی اور دعائے مغفرت کرتی آرہی ہے، یہ میت کا اپنا عمل نہیں ہے غیر کا ہے، مگر اس کو غیر کے اس عمل سے نفع ہوتا ہے کسی کو اس سے عملی اختلاف نہیں ہے۔

• قیاس صحیح اور عقل کامل بھی اسی کی تائید کرتی ہے، کیونکہ نفل اعمال کا ثواب بندہ کا اپنا حق ہے، اگر وہ کسی اور کو ہدیہ کر دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ کوئی آدمی اپنا مال کسی اور کو ہبہ کر دینا چاہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی مانع نہیں، یا جیسا کہ اگر کوئی زندہ مردہ کا قرض ادا کر دے تو اس کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص ثواب کا کام کرے اور اس کا ثواب کسی مرحوم کو بخش دے تو اس کو پہنچنے میں عقلاً کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم (انتہی کلامہ)

بہر حال! یہ تو نفس ایصال ثواب کا ثبوت تھا کہ زندوں کے عمل کا مردوں کو ایصال ثواب کرنا باجماع امت ثابت و جائز ہے، خواہ میت نے زندگی میں اپنی طرف سے ان کے اسباب کئے ہوں یا نہ کئے ہوں، بس مسلمان اپنی جانب سے پہنچا رہے ہوں، دونوں صورتیں صحیح ہیں، اس کے برخلاف جو لوگ ایصال ثواب کو نفل و عمل اور میت کے لیے غیر نافع کام سمجھتے ہیں وہ اجماع امت کے مخالف، بدعتی اور اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج ہیں۔ البتہ اہل السنۃ والجماعۃ کے ائمہ میں "ایصال ثواب" کے برحق ہونے پر اتفاق کے باوجود اس کی صورت و نوعیت میں کچھ اختلاف موجود ہے کہ بعض علماء کے ہاں وہ چند عبادات کے ساتھ خاص ہے اور بعض کے ہاں عام امام مالک اور امام شافعی اس کو بعض اعمال کے ساتھ خاص کرتے ہیں، امام اعظم ابوحنیفہؒ، امام احمدؒ اور جمہور سلف تمام اعمال صالحہ نافلہ کے ذریعہ ایصال ثواب کو جائز سمجھتے ہیں۔

امام ابی العزیز مشقی فرماتے ہیں:

واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلوة وقراءة القرآن والذكر ، فذهب ابو حنيفة واحمد وجمهور السلف الى وصولها ، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها .

عبادات بدنیہ مثلاً روزہ، نماز، تلاوت قرآن اور ذکر اللہ سے ایصالِ ثواب کرنے کے سلسلہ میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور جمہور علماء سلف کے نزدیک ان اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور امام مالک و شافعی کے نزدیک مشہور قول کے مطابق نہیں پہنچتا ہے۔

(شرح العقیدۃ الطحاویہ ص: ۳۶۹)

”مشہور قول کے مطابق“ اس لیے کہا کہ بعد میں محقق علماء شافعیہ نے بھی وصول و جواز کا قول اختیار کرتے ہوئے جمہور ہی کی تائید کی ہے، آگے اصل رسالہ میں آپ اس کی تفصیل ملاحظہ کریجئے۔

جمہور کے مسلک کی تائید و توثیق کے لیے درج ذیل روایات پیش کی جاسکتی ہیں:

• امام مسلم نے حضرت بریدہ سے نقل کیا ہے کہ:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخرجوا الى المقابر ان يقولوا : السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وانا انشاء الله بكم لاحقون ، نسئل الله لنا ولكم العافية . (مسلم)

رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے تھے کہ جب تم لوگ قبرستان جایا کرو تو مردوں سے اس طرح مخاطب ہو کرو، اے مسلمانو! تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔

یہ اور اس قبیل کی تمام قولی و عملی روایات جو مختلف الفاظ و انداز میں منقول ہیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ زندوں کی جانب سے مردوں کے لیے دعا و استغفار کا فائدہ مردوں کو حاصل ہوتا ہے۔

• بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے:

ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه وسلم فقال ، يا رسول الله ان امی اقلت نفسها ، ولم یوص ، واطنها لو تكلمت تصدقت ، افلها اجر ان تصدقت عنها؟ ، قال نعم !

ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آ کر سوال کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، کچھ کہہ نہیں پائیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ کہہ پائیں تو شاید کچھ صدقہ ضرور کروائیں، اب اگر میں خود ہی اپنی طرف سے ان کے لیے کچھ صدقہ کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ آپ نے

فرمایا، ہاں!

یہ اور بخاری ہی میں مروی حضرت سعد بن عبادہ کے اسی طرح کے واقعے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ میت کو زندوں کے صدقات و خیرات کا اجر و ثواب پہنچتا ہے۔

• بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه .

کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمہ مات و علیہ صیام صام عنہ و لیہ .

(بخاری، کتاب الصوم) ولی روزہ رکھ لے۔

یہ اور اس قسم کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بدنی عبادات کا ثواب بھی میت کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میت کے قضا روزے اس کا ولی روزوں کی شکل ہی میں ادا کر سکتا ہے یا اس کا فدیہ ادا کر کے اس کو سبکدوش کر سکتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں مروی ممانعت کی وجہ سے روزہ کا فدیہ ادا کرنا زیادہ صحیح ہے۔

• صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے:

ان امرأة من جهينة جاءت الى النبی صلی الله علیه وسلم فقالت : ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ، افاحج عنها؟ قال حجی عنها ، ارأیت

ایک خاتون نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میری والدہ نذرت ان حج فلم حج حتی ماتت، نے حج کی نذر مانی تھی، مگر اس کو پورا کرنے سے قبل ہی انتقال کر گئیں، کیا میں ان کی جانب

لو كان على ائمة دين ائمة من الله فاقضوا الله فالحق قاضيه؟ قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتیں؟ پس اللہ کا حق بھی بالوفاء۔ (بخاری، کتاب الحج)

ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے وفا کی جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حج کے ذریعہ بھی میت کو نفع پہنچایا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ حج بھی اصلاً بدنی عبادت ہے، اگرچہ مال اس کا ذریعہ ہے مگر سب کے لیے ضروری نہیں، حرم شریف کے رہنے والے بغیر کسی مالی مصروفیت کے محض مناسک حج ادا کرتے ہیں اور ان کا حج سب کے نزدیک معتبر ہے۔ معلوم ہوا کہ حج اصلاً بدنی عبادت ہے۔

• امام احمد نے جابر بن عبد اللہ سے بہ سند حسن روایت کیا ہے:

”ایک شخص کا انتقال ہوا تو ہم لوگوں نے ان کا جنازہ تیار کر کے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئے، اور عرض کیا کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ چند قدم چلے پھر رک کے پوچھا کہ میت مقروض تو نہیں؟ عرض کیا گیا کہ اس پر دو دینار کا قرض ہے، یہ سن کر آپ لوٹ گئے، یہ دیکھ کر حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا: اس کی ادائیگی میری ذمہ داری ہے، ادائیگی کا اطمینان کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھادی، اگلے دن آپ ﷺ نے ان دیناروں کی ادائیگی کے بارے میں پھر دریافت فرمایا، جب حضرت قتادہ نے عرض کیا کہ وہ دینار ادا کر دئے گئے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الآن بردت عليه جلده۔ (مسند احمد ۳/۴۰۵) اب تم نے اس کی روح کو ہر سکون کر دیا۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ اولاد اور رشتہ تو کیا؟ کوئی اجنبی شخص بھی ازراہ خیر خواہی میت کا قرض ادا کر دے یا اور کوئی نفع اس کو پہنچانا چاہے تو شریعت میں گنجائش ہے اور اس کا یہ اہداء والیصال ثواب معتبر ہے۔

• امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے:

فلما انصرف (من المصلی) اتى عیدگاہ سے واپسی کے بعد آپ نے ایک بکبش فذبحة فقال ، بسم الله والله مینڈھا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح فرمایا،

اکبر ، اللهم هذا عنى وعن لم يضح اور کہا اے اللہ! یہ قربانی میری جانب سے ہے من امتی۔ (احمد ۳/۱۳۳)

اور میری امت کے ان تمام افراد کی جانب سے ہے جو قربانی نہیں دے سکے۔

• ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات کتب حدیث میں موجود ہیں مثلاً سعد بن عبادہ کو آپ نے ان کی بہن کی طرف سے پانی کی سبیل لگانے کا مشورہ دیا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن کی طرف سے اعتکاف کیا اور غلام آزاد کیا، حضرت علیؑ نے ایک بوڑھے شخص کو ہدایت دی کہ وہ حج کو نہیں جاسکتا ہے تو کسی اور کو اپنی جانب سے بھیج دے۔ (دیکھئے: ترمذی ۱/۱۱۵)

حضرت عمرو بن عاص کے دریافت کرنے پر کہ ان کے والد عاص نے سوا غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی مگر پوری نہ کر سکے، مرنے کے بعد میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے پچاس غلام آزاد قربانی کر دئے، کیا میں بھی اپنے حصے کے غلام آزاد کر دوں؟ آپ نے فرمایا: اگر تمہارے والد نے توحید کا اقرار کر لیا تھا تو اس کا نفع پہنچے گا، خواہ غلام آزاد کرو، یا ان کی طرف سے صدقہ کرو، یا حج کرو۔ (سب کا ثواب پہنچے گا) (ابوداؤد، باب ماجاء فی وصیة الحر بنی، مسند احمد) اس ایصال ثواب کے مفید ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔

• امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا يقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو واسرعو ا به الى قبره وليقرأ عند رأسه اسے رو کے مت رکھو، جلدی سے اس کی قبر میں فاتحة البقرة وعند رجلها خاتمة پہنچا دو، اور چاہیے کہ (تدفین کے بعد) اس البقرة۔ (شعب الایمان ۲/۱۳۳۰) کے سر پہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پابندی اس کی آخری آیات پڑھ دی جائیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ایصال ثواب بھی دیگر عبادات و نوافل کی طرح بالکل درست ہے اور اس سے میت کو نفع ہوتا ہے، عصر حاضر کے عظیم محقق و مفسر اور فقیہ و مدبر علامہ

ڈاکٹر وہبہ زحیلی اپنی تفسیر ”التفسیر المنیر“ میں رقمطراز ہیں:

والمعتمد فی المذاهب الاربعہ ان ثواب القراءۃ یصل الی الاموات ، لانہ ہبۃ ودعاء بالقران الذی تنزل الرحمات عند تلاوتہ، وقد ثبت فی السنۃ النبویۃ وصول الدعاء والصدقۃ للمیت ، وذلک مجمع علیہ .
(التفسیر المنیر ۱۲/۱۲۰)

اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

مذکورہ بالا تمام روایات سے یہ باتیں اچھی طرح واضح ہو گئیں کہ:

۱) ایصالِ ثوابِ برحق ہے، سلف سے خلف تک اس کی حقیقت پر سب کا اجماع ہے۔

۲) ایصالِ ثوابِ تمام عباداتِ قولیہ، مالیہ اور بدنیہ کا ہو سکتا ہے۔

۳) زندوں کی اس سعی و سفارش اور اہداء و ایصال کا نفع میت کو حاصل ہوتا ہے۔

رہ گیا وہ اشتباہ جو ”أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“ سے معتزلہ یا ان کے ہم نوا طبقے کو ہو گیا ہے کہ انسان کو اپنی سعی (عمل) کے علاوہ کسی چیز کا نفع نہیں ہو سکتا تو اس شبہ کا باطل ہونا اظہر من الشمس ہے، تفصیل تو حدیث کے شارحین اور متکلمین کی کتب میں دیکھی جاسکتی ہے، ہم امام قرطبی جیسے عظیم مفسر کی اسی آیت کے تحت کی گئی ایک وضاحت پیش کر دینے کو عوام الناس کے لیے کافی سمجھتے ہیں، صاحبِ سبجہ و انصاف کے لیے یہی کافی ہے۔

وقال الربیع بن انس (وان لیس للانسان الا ما سعی) یعنی الکافر، واما المؤمن فله ما سعی وما سعی له غیرہ قلت کثیر من الاحادیث یدل
ریح ابن انس آیت شریفہ میں انسان سے کافر کو مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومن کو تو اس کی اپنی سعی بھی نفع دے گی اور غیر کی سعی بھی۔
میں کہتا ہوں کہ ریح ابن انس کے اس قول کی

علیٰ هذا القول ، وان المؤمن لیصل الیہ ثواب العمل الصالح من غیرہ . مومن کو دوسرے کے عمل صالح کا ثواب تائید بہت سی احادیث شریفہ سے ہوتی ہے کہ (قرطبی ۱۲/۱۱۳) پہنچتا ہے۔

اس رسالہ کے مؤلف عزیزم مولوی محمد اطہر صاحب کریم نگری نے آج سے ۸ سال قبل علاقے میں غیر مقلدین اور دیگر احزاب کی جانب سے عوام میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے اس کی تالیف کی تھی، اور معتبر حوالوں سے نفسِ مسئلہ پر جامع مواد اکٹھا کر کے اور متعدد علماء کرام سے توثیق کروا کے اس عاجز کے حوالہ کیا تھا، پھر وہ خانگی احوال کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہو گئے، چونکہ ان کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ تھا اس لیے مجھے اس رسالے کی طرف زیادہ التفات نہ ہوا، دوسرے کام آتے اور تکمیل پاتے رہے، ادھر چند نوجوانوں نے پھر اس مسئلہ میں احقر کی طرف رجوع کیا اور بعض حضرات نے فون پر بھی اس مسئلے کی حقیقت معلوم کرنی چاہی اور معلوم ہوا کہ ادھر والے لوگ مختلف تنظیمیں بنا کر اپنے جہل سے گویا اعتزال و اختلال کا پرچار کر رہے ہیں تو اس مضمون کی اشاعت کا خیال آیا، مطالعہ کے بعد محسوس ہوا کہ مؤلف رسالہ کے سامنے اصل موضوع ”ایصالِ ثواب بالقرآن الکریم“ کا تھا تو انہوں نے اسی کے اثبات پر زیادہ توجہ دی اور نفس ایصالِ ثواب کی حقیقت پر بھی کلام کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، اس لیے میں نے اپنے ابتدائی کلمات ذرا مفصل لکھ دئے تاکہ یہ کمی بھی پوری ہو جائے۔

حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ عقائد اہل سنت کی وضاحت و حفاظت کے لیے کی گئی یہ سعی مقبول ہو کر عوام الناس کی غلط فہمی کے ازالہ کا سبب بنے۔ آمین

محمد عبدالقوی عفرلہ

۷ شعبان المعظم ۳۲ھ یوم الجمعة المبارکة

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تقدیم

یہ مسئلہ آج کل بعض گوشوں سے بہت شد و مد سے اٹھایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعہ ایصالِ ثواب ناجائز ہے اور یہ کہ اس کا ثبوت شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے، اس لئے یہ سخت گناہ کا کام اور بدعتِ سینہ ہے، حالانکہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ سے یہ مسئلہ بے غبار طور پر ثابت ہے، خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنے پر کئی فضیلتیں مروی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بعض فقہاء کو اس سے اختلاف ہے، لیکن اکثر کے ہاں یہ عمل رائج ہے اور ان کے ہاں اس کے واضح دلائل موجود ہیں، اس کے برخلاف قرآن کریم کے ذریعہ ایصالِ ثواب کا ناجائز ہونا تو قرآن مجید میں مذکور ہے اور نہ حدیث شریف میں۔

پھر کسی ثابت و جائز فعل کے بارے میں اتنا تشدد و تعصب برتنا کہ اسے سخت ترین گناہ سمجھا جانے لگے درحقیقت قرآن کریم اور احادیث سے بے خبری اور ناواقفیت کی علامت ہے، البتہ اس کا جو طریق عوام میں مخصوص اوقات و اعمال کی صورت میں رائج ہے ان کے ناجائز کہے جانے پر ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کی وجہ سے نفس مسئلہ کا انکار کیسے ممکن ہے؟ خود اہل حدیث کے پیشوا حضرت مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپائی اپنی کتاب ”فتح الباب“ جس کی تلخیص ”عقیدۃ المؤمن“ کے نام سے کی گئی ہے اس میں لکھتے ہیں:

”ہدیہ، دعا، استغفار، تلاوت اور نماز کا اجر میت کو پہنچتا ہے جب کہ یہ سارے کام میت کی طرف سے کئے جائیں، ان کا انکار کرنا شریعت کے مقصد کے خلاف ہے، ہاں سوم، چہلم، ششماہی، برسی کرنا بدعت و ضلالت ہے۔“ (عقیدۃ المؤمن: ۱۱۶)

اسی طرح کا فتویٰ ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری نے فتاویٰ ثنائیہ میں نقل فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ

اپنی ذاتی رائے بھی پیش کی ہے جسے آگے بیان کیا جاوے گا۔ اس کے باوجود محض خیالی پلاؤ اور عقلی دلائل سے اس عمل کا انکار جس طرح ایک طبقہ کر رہا ہے وہ حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے، عامۃ المسلمین کی راہنمائی کے لیے اس رسالہ میں قرآن مجید کے ذریعہ ایصالِ ثواب کے ثبوت پر قرآن وحدیث کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے اور مخالفین کے دلائل کا بھی اچھی طرح جائزہ لیا گیا ہے، جو امید ہے کہ اس موضوع پر کافی روشنی ہوگا۔ اللہ پاک اس کاوش کو قبولیت و پذیرائی سے نواز کر نفع عام کا اور میرے والدین سعیدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔

محمد اطہر کریم مگری

ایصالِ ثواب:

یعنی اپنے کسی کام کا ثواب مردہ کو پہنچانا، یہ عمل اہل سنت والجماعت کے یہاں جائز ہے اور قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے، مذہبِ اسلام میں صرف فرقہ معزولہ اس کا منکر ہے، جبکہ اس فرقے کے علاوہ کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے، معزولہ کہتے ہیں کہ عبادات کا ثواب سوائے عابد کے کسی اور کو نہیں پہنچتا خواہ عبادتِ مالی ہو یا بدنی، یہ لوگ دلیل میں یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں۔
وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. (الایۃ) اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا۔
اہل سنت والجماعت میں سے علامہ شامی اور علامہ کمال الدین بن ہمام نے اس کے کئی جوابات دیئے ہیں۔

● پہلا جواب یہ ہے کہ جب تک آپ پڑھ کر غیر کے نام پر بہہ نہیں کریں گے اس عمل کا ثواب دوسروں تک نہیں پہنچے گا۔

● دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں "لِلْإِنْسَانِ" کا "لام" علی کے معنی میں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں "وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ" میں "لام" علی کے معنی میں ہے یعنی عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ لِهَذَا اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ "انسان کو کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں سوائے اپنے عمل کے" تو نفی نقصان کی ہوئی نہ کہ منفعت کی۔

● تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے بقول ابن عباس اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. (الایۃ)
کی اولاد نے، تو ملا دیا ہم نے ان سے ان کی اولاد کو (یعنی اولاد کے اعمال ماں باپ کے اعمال میں شامل کئے گئے)

● چوتھا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے ساتھ خاص ہے۔

● پانچواں جواب یہ ہے کہ اس آیت میں "انسان" سے مراد کافر ہے، ایسی صورت میں مؤمن کے حق میں نفی نہیں، مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اس آیت کے تحت "معارف القرآن" میں لکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ "یعنی (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے فرائض ایمان، نماز و روزہ کو ادا کر کے دوسرے کو سبکدوش نہیں کر سکتا، پس اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص کے نفی عمل کا کوئی فائدہ اور ثواب دوسرے شخص کو نہ پہنچ سکے، کیوں کہ ایک شخص کی دعا اور صدقہ کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچنا مخصوص شرعیہ سے ثابت اور تمام امت کے نزدیک اجتماعی مسئلہ ہے۔ (تفسیر معارف القرآن: ج ۸، ص ۲۱۹، سورۃ نجم)

اور تفسیر شیخ الہند میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں "آدمی جو کچھ کوشش کر کے کماتا ہے وہ ہی اس کا ہے، کسی دوسرے کی نیکیاں لے اڑے یہ نہیں ہو سکتا باقی کوئی خود اپنی خوشی سے اپنے بعض حقوق دوسرے کو ادا کر دے اور اللہ اس کو منظور کر لے وہ الگ بات ہے جس کی تفصیل حدیث و فقہ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ (فوائد عثمانی: پ ۲۷، ص ۷۰۰)

آیت مذکورہ کی یہ توجیحات و تاویلات کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی بات منانے کے لیے کر دی گئی ہیں بلکہ چونکہ آیت کا مفہوم ظاہری دیگر خصوص قطعہ شرعیہ اور تعامل صحابہ سے مکرار ہے اس لیے حضرات مفسرین نے اس کی یہ تاویل فرمائی ہے اور ایسا کرنا اصول تفسیر میں سے ہے، جنہیں ذوق ہو وہ اصول تفسیر کا مطالعہ کریں۔

پس مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ منکرین ایصالِ ثواب کا آیت مذکورہ سے استدلال خود غلط اور امت کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے اس لئے چنداں قابل التفات نہیں ہے۔

ایصالِ ثواب کا ثبوت قرآن کریم سے:

ارشاد خداوندی ہے: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا. یعنی مال اور اولاد زندگی کی زینت ہیں اور باقیات الصالحات بہت بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب میں اور یہ بہترین امید ہے۔ (تفسیر شیخ الہند)

اس آیت کے اجمال کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلثة اشياء عمل منقطع اور موقوف ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے کہ ان کا ثواب موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے (۱) خیرات و صدقہ، جس کا فائدہ ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے، (۲) فیضان علم جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، (۳) نیک بخت لڑکا جو باپ کے واسطے دعا کرتا رہے۔

(ابوداؤد شریف ص ۳۹۸، کتاب الوصایا)

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ تکمیلہ فتح الملہم میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

● انقطع عملہ:- یعنی اس کا وہ عمل جس کی وجہ سے وہ اجر کا مستحق سمجھا جاتا ہے اس کی وفات کے بعد وہ عمل اور ثواب بند ہو جاتا ہے لیکن صدقات کا ثواب برابر ہو نچتا رہتا ہے۔

● الامن صدقہ جاریہ:- یعنی متصدق (صدقہ یا وقف کرنے والے) نے جو جو چیزیں صدقہ کیں اس کا ثواب و نفع برابر ملتا رہے گا اور صدقہ جاریہ اکثر وقف کی چیزوں میں ہوتا ہے۔

● او ولد صالح يدعولہ:- اس جملہ میں اپنی اولاد کی دینی تربیت کے اہتمام کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ نیک اولاد ہی سے دعا کی امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے والد یا والدہ کی وفات کے بعد ایصالِ ثواب اور ان کے بخشش کی دعائیں کریں گے۔ (تکمیلہ فتح الملہم ۱۱۷/۳)

اس حدیث میں ایک قاعدہ کلیتہً بیان کیا گیا ہے کہ لڑکا اپنے والدین کی وفات کے بعد جس عبادت کا بھی اہتمام کرے گا اور جو بھی خیر کی دعا کرے گا اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچے گا۔

ولد صالح يدعولہ کے عموم میں ہر قسم کی دعا داخل ہے اور ایصالِ ثواب بھی داخل ہے جیسا کہ اس حدیث کی تشریح میں گذر چکا ہے۔

● نقلی حج کا ثواب پہنچانے کا ثبوت حضرت انسؓ کی ”ونحج عنهم وندعولهم“ والی روایت سے ملتا ہے۔

● دعا و استغفار کرنے کا ثبوت قرآن مجید کی کئی آیات اور کئی احادیث سے ملتا ہے۔

● نقلی قربانی کے ذریعہ میت کی روحوں کو ثواب پہنچانے کا ثبوت خود حضور اقدس ﷺ کے فعل ”انہ ضحیٰ بکبشین املحین والی روایت“ سے ملتا ہے۔

● اسی طرح قرآن مجید پر دھکر میت کی روح کو ثواب پہنچانے کا ثبوت درج ذیل روایات سے ملتا ہے۔

قرآن مجید پڑھ کر میت کی روح کو بخشنے کا ثبوت احادیث سے:

● پہلی روایت:

عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن ابیہ قال قال ابی اللجلاج ابو خالد یابنی اذا مت فالحد لی فاذا وضعتنی فی لحدی فقل بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم سن علی التراب سنا ثم اقر عند رأسی بفاتحة البقرة وخاتمتها فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر

علاء بن اللجلاج کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے لحد بناؤ اور جس وقت مجھے لحد میں رکھو تو ”بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کہو، اس کے بعد مجھ پر مٹی ڈالو، بعد ازاں میرے سر اپنے سورہ بقرہ کا شروع اور آخر پڑھو کیونکہ میں نے رسول اکرمؐ کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے، اس کو طبرانی نے مستحجج روایت کیا ہے۔

واسنادہ صحیح .

حافظ شبلی ”مجمع الزوائد“ میں اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس روایت کے تمام رجال

ثقات ہیں، (۱۰/۸، مجمع الزوائد: ۳/۳۲، باب ما یقوم عنہ ادخال ا لمیت القبر)

اس روایت کے مضبوط ہونے کی ایک اور دلیل وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے، جسے علامہ بیہقی نے نقل کیا ہے۔

● دوسری روایت:

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الی قبره ولیقرأ عند رأسه فاتحة البقره عند رجلیہما خاتمة البقره۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرمؐ سے سنا، آپؐ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روک کے مت رکھو جلدی سے اسے قبرستان لے جا کر تدفین کر دو، اور اس کے سر ہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پائی آخرت آیات تلاوت کرو۔

آثار السنن کے حاشیہ میں اس روایت کے بارے میں مرقوم ہے کہ یہ روایت اگرچہ موقوف ہے لیکن حکم میں مرفوع کے ہے کیونکہ غیر مد رک بالرائے ہے لہذا قابل حجت ہوگی۔

● تیسری روایت:

عن علی رضی اللہ عنہ مرفوعاً من مر علی مقابر وقرأ قل هو اللہ احد احدی عشرة مرة ثم وهب اجرہ للاموات اعطی من الاجر بعد الاموات اخرجہ ابو محمد السمرقندی فی فضائل قل هو اللہ احد (شرح الصدور: ص ۱۲۳)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کا قبرستان پر گزر ہو، اور وہ "قل هو اللہ احد" گیارہ مرتبہ پڑھے پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا، اس روایت کو ابو محمد سمرقندی نے نقل ہو اللہ احد" کے فضائل میں روایت کیا ہے۔ (اعلاء السنن: ج ۸، ص ۲۱۱۔ کنز العمال: ج ۸، ص ۱۰۰)

دارقطنی عن علی رضی اللہ عنہ)

● چوتھی روایت:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو اللہ احد والہکم التکائر ثم قال اللهم انی قد جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لاهل المقابر من المؤمنین والمؤمنات کانوا شفعاء له الی اللہ تعالیٰ اخرجہ ابو القاسم سعد بن علی الذنجانی فی فوائده۔ (شرح الصدور: ص ۱۲۳، اعلاء السنن: ۲۱۱/۸)

کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص قبرستان میں داخل ہو، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور "قل هو اللہ احد" والہکم التکائر پڑھے، اس کے بعد کہے کہ اے اللہ میں نے جو تیرا کلام پڑھا ہے، اس کا ثواب میں نے اس قبرستان کے مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دیا، تو وہ خدا کے یہاں اس کے شفاعت کریں گے، اس روایت کو ابو القاسم سعد بن علی زنجانی نے اپنے فوائد میں روایت کیا ہے۔

● پانچویں روایت:

عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ وسلم قال من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف اللہ عنهم وکان له بعدد من فیہا حسنات. اخرجہ عبد العزيز صاحب الخلال بسندہ. (شرح الصدور: ص ۱۲۳، اعلاء السنن: ج ۸، ص ۲۱۱)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کوئی قبرستان میں جائے اور سورہ یس پڑھے حق تعالیٰ شانہ ان مردوں سے عذاب کو ہلکا کر دے گا اور پڑھنے والے کے لیے ان مردوں کے عدد کے موافق نیکیاں ہوں گی، اس روایت کو علامہ عبدالعزیز صاحب خلال نے اپنی سند سے روایت کیا ہے۔

علامہ سیوطیؒ کی رائے:

قرآن مجید پڑھ کر میت کی رجوں کو بخشنے کے سلسلے میں یہ پانچ روایتیں ہیں ان میں سے اخیر کی تین روایتوں کے بارے میں علامہ سیوطیؒ کی رائے سنیے، اعلاء السنن کے مؤلف نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ امام سیوطیؒ نے ان تینوں حدیثوں کی نسبت کہا ہے کہ یہ اگرچہ ضعیف ہیں مگر ان سب کے

مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے اصل ہے فقال العلامة (السيوطي) يوهي وان كانت ضعيفة فمجموعها بدل على ان لذلك اصلاً (اعلاء السنن: ج ۸ ص ۲۱۱)

یعنی کثرت روایات کی وجہ سے ان میں قوت ضرور آگئی ہے اور یہ روایتیں قابل حجت بن گئی ہیں جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی علامہ سیوطیؒ کی تحقیق رائے پر مبنی ہے۔

تھوڑی دیر کے لیے ان تمام روایات کو "علی سبیل التنزل" ضعیف بھی مان لیں تب بھی ایصالِ ثواب کے بارے میں ان سے استدلال درست ہو سکتا ہے، کیونکہ ایصالِ ثواب کا عمل بھی تو صرف مستحب ہی ہے اور استحباب پر عمل کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی کافی ہے جیسا کہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ ضعیف حدیث کے ساتھ استحباب پر عمل کیا جاسکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ حدیث شدید ضعیف نہ ہو جیسا کہ علامہ ابن ہمام نے فتح القدر کے کتاب الجناز میں لکھا ہے: والاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع انتهى (ترتيب المسائل: ص ۱۰۵)

در مختار میں ہے: شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه۔ (ابن ماس: ۱۰۸)

اعلاء السنن کے حاشیے میں لکھا ہے: قد تكفي بالضعاف في الفضائل.

● اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث ضعیف اگر متفرق اسناد سے مروی ہو تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے لہذا درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے۔

● دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث ضعیف اس وقت حجت نہیں ہو سکتی جب کوئی قوی حدیث اس کے معارض ہو، اور یہاں ایصالِ ثواب کے نفع میں تو شروع ہی سے کوئی روایت نہیں ہے، اگر ہو تو بتلائے قوی تو کیا..... ضعیف بھی نہیں بتلا سکتے۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ:

اس باب میں جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی مالی و بدنی عبادت کا ثواب (بشرطیکہ وہ نقلی ہو) مردوں کو بخشا جاسکتا ہے، البتہ حضرت امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کی رائے

یہ ہے کہ عبادت بدنی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا صرف دعا اور صدقات کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن علامہ حافظ سیوطیؒ لکھتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے مسلک کے دیگر محققین نے خود اپنے امام کی اس تحقیق سے اختلاف کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ ہر قسم کی مالی و بدنی نقلی عبادت کا ثواب میت کو پہنچایا جاسکتا ہے۔

امام نوویؒ شارح مسلم کی تحقیق:

واما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي انه لا يصل ثوابها الى الاميت وقال بعض اصحاب يصل الى الاميت و ثواب جميع العبادت من الصلوات و الصوم و القراء ة و غير ذلك (شرح مقدمہ مسلم)

بہر حال قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعہ ایصالِ ثواب کے بارے میں امام شافعیؒ سے مشہور قول یہی منقول ہے کہ اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ درانحالیکہ بعض اصحاب شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اسی طرح تمام عبادتوں روزوں اور نمازوں اور قرأت قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ (شرح مقدمہ مسلم)

یہی امام نووی شافعیؒ اپنی کتاب شرح المہذب میں لکھتے ہیں: ويستحب للزائر ان يسلم على المقابر ويدعو لمن يزوره ولجميع اهل المقبرة، والافضل ان يكون السلام والدعاء بمالبت في الحديث ويستحب ان يقرأ من القرآن ماتيسر ويدعولهم عقبها نص عليه الشافعي والتفق عليه الاصحاب۔ "کہ قبر کی زیارت کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جس قدر ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے بعد اہل قبور کے لیے دعا کرے، امام شافعیؒ نے اس کی تصریح فرمائی ہے اور اس پر ہمارے اصحاب متفق ہیں"

(المجموع شرح المہذب: ۵/۳۱۱)

اسی طرح امام نووی شافعیؒ "کتاب الاذکار" میں لکھتے ہیں: ويستحب ان يقعد عنده الفراغ ساعة قدر ما ينحز جزورا ويقسم لحمها ويشغل القاعدون بتلاوة القرآن والدعاء للميت۔ "تدفین کے بعد مستحب ہے کہ قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھے رہے جتنی دیر میں

اونٹوں کو ذبح کر کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے اور بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور میت کے لیے دعا کرنے میں مشغول رہیں“ (الاذکار: ص ۱۳۷)

اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ ۱۵۲ پر لکھتے ہیں: ويستحب للزائر الاكثار من قراءة القرآن والذکر والدعاء لا هل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين اجمعين - مستحب ہے قبر کی زیارت کرنے والے کے لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر میں زیادتی (کثرت) کرے اور اس صاحب قبر کے ساتھ تمام مردوں اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے۔ (الاذکار: ص ۱۵۲)

امام نوویؒ کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ امام شافعیؒ اور ان کے اصحاب فقہ نے خود قرآن مجید کے ذریعہ ایصالِ ثواب کی صراحت بیان فرمائی ہے اب رہے امام احمد بن حنبلؒ جن سے اس بارے میں جو بدعت کا قول منقول ہے اس سے رجوع بھی ثابت ہے جیسا کہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ کا اپنے مسلک سے رجوع:

علی بن موسیٰ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنازہ میں امام احمد بن حنبلؒ کے ساتھ تھا اور محمد بن قدامة الجوهریؒ بھی ہمارے ساتھ تھے، پس جب میت کو دفن کر دیا گیا تو ایک نابینا شخص آیا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، امام احمد بن حنبلؒ نے اس آدمی سے کہا اے فلاں! قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا بدعت ہے، پھر جب ہم قبرستان سے نکل کر باہر آگئے تو محمد بن قدامة نے امام احمد بن حنبلؒ سے دریافت کیا: اے ابو عبد اللہ! بشر بن اسماعیل حلبیؒ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام احمد بن حنبلؒ نے جواب دیا وہ تو ثقہ (قابل اعتماد راوی) ہیں، پھر محمد بن قدامة نے پوچھا، کیا آپ نے بشر بن اسماعیل حلبیؒ سے کوئی روایت نقل کی ہے؟ کہا ہاں نقل کی ہے، تب محمد بن قدامة الجوهریؒ نے کہا مجھے بشر بن اسماعیل حلبیؒ نے خبر دی اور ان کو عبد الرحمن بن العلاء بن اللخاج نے کہ ان کو ان کے والد نے وصیت کی کہ جب انہیں دفن کر دیا جائے تو ان کی قبر کے سر ہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور اس کی آخری آیتیں پڑھیں، پھر کہا کہ میں نے

حضرت ابن عمرؓ سے اسی طرح کی وصیت فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ سن کر امام احمد بن حنبلؒ نے محمد بن قدامة الجوهریؒ سے کہا کہ میں نے جس نابینا کو قبر کے پاس قرآن پڑھنے سے منع کیا تھا تم اس سے جا کر کہہ دو کہ وہ ”قبر کے پاس“ قرآن پڑھے۔

اسی طرح حضرت محمد بن مروزیؒ نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبلؒ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو ”سورہ فاتحہ اور معوذتین اور سورہ قل هو اللہ احد“ پڑھ کر اس کا ثواب تمام قبرستان کے مردوں کو بخش دو کیونکہ اس طرح کرنے سے ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ (الاحیاء: ص ۳۳۱)

اس تفصیل سے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ تدفین کے بعد قبر کے سر ہانے کھڑے ہو کر یا قبر کی زیارت کے وقت قرآن مجید پڑھ کر میت کی روح کو ثواب پہنچایا جاسکتا ہے، اب چند محدثین اور فقہاء کی مزید تحقیقات نقل کی جاتی ہیں۔

علامہ شوکانیؒ کی رائے:

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوطار میں لکھتے ہیں:

وبقراءة يس من الولد وغيره لحديث ”اقرأ واعلى موتاكم يس“ وبا الدعاء من الولد لحديث ”استغفروا اياخيمكم وسلوا له التثبيت“ ولقوله تعالى ”والذين جاءوا من بعدهم الاية وبجميع ما يفعله الولد من اعمال البر لحديث ”ولد الانسان من سعيه“ الحديث (انتهى نيل الاوطار، ص: ۳۳۵، ج: ۳)

اور سورہ یٰسین کا ثواب بھی میت کو ملتا ہے اولاد کی طرف سے بھی اور غیر اولاد کی طرف سے بھی، اس واسطے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں پر سورہ یٰسین پڑھا کرو، اور دعا کا نفع بھی میت کو پہنچتا ہے اولاد کرے یا کوئی اور، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور ثبات قدمی کی دعا کرو، اور باری تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر والدین جاؤ وامن بعد ہم الاية اور جو جو کار خیر اولاد اپنے والدین کے لیے کرے سب کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کی اولاد اس کی سعی (محنت) سے ہے۔

امام نووی شافعیؒ کی رائے:

حضرت امام محمد بن نووی شافعیؒ اپنی کتاب ”الاذکار“ میں نقل فرماتے ہیں:

وروینا فی سنن ابی داؤد فصل والبیہقی باسناد حسن عن عثمان رضی اللہ عنہ قال ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم وسلواہ التثبیت فانہ الآن یسئل“ قال الشافعی والاصحاب یتستحب ان یقرء واعندہ شیئا من القرآن قالوا فان ختموا القرآن کلہ کان حسنا وروینافی سنن البیہقی باسناد حسن ان ابن عمر رضی اللہ عنہما استحب ان یقرأ علی القبر بعد الدفن اول سورة البقرة وخاتمہا۔

امام ابوداؤد نے اور امام بیہقیؒ نے سند حسن کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، سے روایت نقل کی ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اس سے سوال کیا جانے والا ہے، امام شافعیؒ اور ان کے اصحاب نے فرمایا کہ قبر کے پاس قرآن میں سے کچھ حصہ پڑھنا مستحب ہے، بلکہ اگر پورا قرآن ہی ختم کر دے تو بہتر ہے اس دلیل کی بنا پر جسے علامہ بیہقیؒ نے سند حسن کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دفن کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا اول اور آخر حصے پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ (الاذکار: ص ۱۴۷)

صاحب لمعات التنقیح کی رائے:

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اسی روایت کے بارے میں صاحب لمعات التنقیح شارح مشکوٰۃ المصابیح لکھتے ہیں:

وعنه (سلواہ بالتثبیت) ای ادعوا له بأن یتبئہ اللہ تعالیٰ علیٰ جواب الملکین بالقول الثابت وفيہ دلیل علی ان الدعاء نافع للمیت وفي عقائد اهل السنة

والجماعة فی دعاء الاحیاء للاموات نفع لهم وتلقین بعد الدفن شیء اخر غیر الدعاء وهو مستحب عند کثیر من الشافعیة وقد نقل عن بعض اصحابنا ایضا وقد ورد فیہ حدیث عن ابی امامة ذکرہ السیوطی فی جمع الجوامع من حدیث الطبرانی وابن النجار وابن العساکر والدیلمی نقل الطیبی عن سنن البیہقی استحباب قراءة اول سورة البقرة وخاتمہا وقد سمعت عن بعض العلماء انه یتستحب.

سلوا له التثبیت :- کا مطلب یہ ہے کہ تم اس میت کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کے سامنے مضبوط دلیل کے ساتھ جواب دہی پر ثابت قدم رکھے، اور اس روایت میں اس بات کی دلیل ہے کہ دعا میت کے لیے نافع ہوتی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ زندوں کا مردوں کے لیے دعا کرنا نفع بخش ہے..... تدفین کے بعد دعا کے علاوہ تلقین کرنا (یعنی قرآن پڑھ کر کے بخشنا) یہ الگ مسئلہ ہے جو مستحب ہے اکثر شوافع کے یہاں اور ہمارے بعض اصحاب سے بھی مستحب کا قول ہی نقل کیا گیا ہے اور اس بارے میں حدیث بھی وارد ہوئی ہے جو حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جسے علامہ سیوطیؒ نے ”جمع الجوامع“ میں طبرانی اور النجار اور ابن العساکر اور دیلمی سے نقل کیا ہے، اور علامہ طیبیؒ نے سنن بیہقی سے نقل کیا ہے کہ ”تدفین کے بعد قبر کے سر ہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا اول اور اس کا اخیر پڑھنا مستحب ہے اور میں نے خود بعض علماء سے سنا ہے کہ یہ فعل مستحب ہے“ (لمعات التنقیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، ۱/۲۰۰)

ملا علی قاریؒ کی رائے:

حضرت ملا علی قاریؒ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں:

ورواه ابن ابی شیبۃ والنسائی والحاکم وابن حبان وأخرج ابن ابی الدنیا والدیلمی عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت یقرأ عند رأسہ سورة یس الا ہون اللہ علیہ، قال ابن حبان المراد بہ من حضرہ الموت وخالفہ بعض محققى المتأخرین فأخذ بظاهر الخبر فقال بل یقرأ علیہ بعد موتہ

وهو مسجى وذهب بعض الى انه يقرأ عليه عند القبر ويؤيده خبر ابن عدى وغيره من زار قبر والديه أو أحدهما فى كل جمعة فقراً عندهما ينس غفر له بعد ذلك حرف منها انتهى!

ابن ابی شیبہ اور نسائی اور حاکم اور ابن حبان نے نقل کیا ہے، اسی طرح ابن ابی الدنیا اور دیلمی نے بھی اس کی تخریج کی ہے کہ حضرت ابو برداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر وہ میت جس کے سرہانے سورۃ یٰسین پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس پر معاملہ کو آسان فرمادیتے ہیں۔

اس حدیث کے بارے میں (۱) ابن حبان نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو قریب المرگ ہو، (۲) اور بعض محقق متاخرین نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ سورۃ یٰسین مرنے کے بعد پڑھی جائے گی جب کہ وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے ہو، (۳) اور علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ سورۃ یٰسین کو میت پر قبر کے پاس پڑھا جاوے گا، اور اس آخری معنی کی تائید حضرت ابن عدیؒ وغیرہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے، اس میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے والدین یا ان دونوں کے قبروں کے پاس سورۃ یٰسین پڑھے تو سورۃ یٰسین کے ہر حرف کے بدلہ میں اس کی مغفرت کی جائیگی۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ۴/۱۶)

علماء احناف کی رائے:

فتاویٰ عالمگیری میں ہے: الاصل فى هذا الباب ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلوة كان او صوما او صدقة او غيرها كاللحج وقراءة القرآن او الاذكار وزيارة قبور الانبياء والشهداء والاولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع انواع البر كذا فى غاية السروجى شرح الهداية.

اس باب میں یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے عمل کا ثواب کسی اور کے واسطے کر دینا جائز ہے چاہے وہ عمل نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا اور کچھ، جیسے حج اور تلاوت قرآن اور دیگر اذکار و وظائف

اور ایضاً علیہم السلام، شہداء اور اولیاء کرام صالحین عظام کی قبروں کی زیارت کرنا اور مردوں کو کفن دینا اور کسی بھی قسم کے نیک اعمال کا ثواب پہنچایا جاسکتا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۱/۱۶۶)

اور علامہ محمد اللہ الداجوی نے اپنی کتاب البصائر میں لکھا ہے: واصل المسئلة صحيح فى من قرأ القرآن اوسبح او هلى او صلى كذار كعة واهدى ثواب ذلك لفلان الحى او الاميت فان الانسان له ان يجعل ثواب عمله مطلقاً عند اهل السنة والجماعة لغيره ميتا كان او حيا نوى به عند الفعل للغير او يفعله لغيره واما قوله عليه الصلوة والسلام (لا يصلى احد عن احد ولا يصوم احد عن احد) فهو فى حق الخروج عن العهدة لافى حق الثواب انتهى۔

مسئلہ کی صحیح حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہو یا تسبیح یا تہلیل کی ہو یا نفل نماز پڑھی ہو تو اس کا ثواب کسی زندہ یا مردہ کے نام ہدیہ کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کو مطلقاً یہ حق حاصل ہے کہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچائے، خواہ کسی زندہ کے نام پر ہو یا مردہ کے نام پر، خواہ اس عبادت کو ادا کرتے وقت دوسرے کو ثواب پہنچانے کی نیت کرے یا پہلے اپنے لئے پڑھ کر کے بعد میں دوسرے کے ثواب پہنچانے کی نیت کرے، اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ تمام صورتیں جائز ہیں اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے روزہ نہ رکھے تو یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو فرائض ایمان کی ذمہ داری و ادائیگی سے بری و سبکدوش ہونا چاہتا ہے مگر اس کی ادائیگی بجائے خود کرنے کے دوسرے سے کراتا ہو تو یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔

(البصائر: ص ۲۱۲)

الجوهرة النيرة شرح قدوری میں ہے:

ويستحب اذا دفن الميت ان يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما يسحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن ويدعون للميت فان فى سنن ابى داؤد كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال

استغفرو اللہ لا خیکم واسألوا اللہ له الثبیت فانه الان یستل، وکان ابن عمرؓ
یستحب ان یقرأ علی القبر بعد الدفن اول سورة البقرة و خاتمها انتهى.

جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جائیں تو قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر
میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور میت
کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ سنن ابوداؤد میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت
کی تدفین سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہرتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے
مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اب اس سے سوال کیا جاوے گا،
اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنے کو
مستحب قرار دیتے تھے۔ (الجوهرة النيرة شرح قدوری: ۱۱۱)

امام محمدؒ اور امام احمدؒ کی رائے:

الفقه الاکبر ص: ۲۰ پر ہے۔

وقال محمد بن الحسن واحمد فی امام محمد بن الحسن اور ایک روایت کے مطابق
روایة لا یکره (ای قراءۃ القرآن) امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا کہ مکروہ نہیں ہے
لما روی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما (یعنی قبر پر تلاوت کلام پاک جائز ہے) اس
انہ اوصی ان یقرأ علی قبره وقت روایت کی وجہ سے جو عبد اللہ ابن عمر سے مروی
الدفن بقواتح سورة البقرة و خواتمها ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ تدفین کے
انتھی۔ (لفقه الاکبر ص: ۱۲۰) بعد ان کی قبر پر سورہ بقرہ کا اول اور اس کا آخر
پڑھا جاوے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ شارح مشکوٰۃ کی رائے:

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ۔

المروی من السنة فی الزیارات السلام زیارت قبور اور اموات کو سلام کرتا ان کے لیے
علی الموتی والا ستغفار لهم وقرأة مغفرت طلب کرنے اور تلاوت قرآن مجید کا
القران انتهى۔ (جامع الفتاویٰ: ۶۳/۱) ثواب مردوں کو پہنچانا سنت سے ثابت ہے۔
اسی طرح صاحب البصائر مولانا محمد اللہ الداجوی نے لکھا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے
اشعة اللمعات میں اس کی صراحت فرمائی ہے کہ قبروں کے پاس قرآن پڑھ کر بھٹنے میں کوئی
کراہت نہیں ہے۔

شیخ عزالدین بن عبد السلام کا واقعہ

حضرت مولانا محمد اللہ الداجوی نے اپنی مشہور و معروف کتاب ”البصائر“ میں شیخ عزالدین بن
عبد السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ

شیخ عبد اللہ یافعیؒ نے ”روض الرباعین“ میں ذکر کیا ہے کہ شیخ عزالدین ابن عبد السلام اپنی
زندگی میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ میت کو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا، مگر ان کے انتقال کے
بعد جب کسی شاگرد کو خواب میں ان کی زیارت ہوئی تو شاگرد نے ان سے دریافت کیا کہ زندگی میں
آپ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ تلاوت قرآن کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا اب تو مشاہدہ ہو گیا ہوگا؟ اب
آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ عزالدینؒ نے جواب دیا میں تو دنیا میں یہ فتویٰ دیا کرتا تھا لیکن یہاں جو اللہ
تعالیٰ کے کرم کا مشاہدہ کیا تو اس فتویٰ سے رجوع کر لیا۔ (اشعة اللمعات: ۱/۱۱۲، البصائر: ۲۱۵)

اس طرح کی تصریحات فقہاء کی کتابوں میں موجود ہیں گویا اس پر جمہور فقہاء و علماء کبار کا
اجماع ہے اور اس پر تو اتر کے ساتھ عمل بھی چلا آ رہا ہے شریعت نے ایصال ثواب کے لیے کوئی
خاص طریقہ متعین نہیں فرمایا کہ صدقہ یا نفل نماز یا روزہ حج ہی کے ذریعہ ثواب پہنچایا جائے، ایسی
کہیں تحدید تعین نہیں ہے، ہر قسم کی عبادت کے ذریعہ مردوں کو ثواب پہنچایا جاسکتا ہے مثلاً نفل نماز
، نفل روزہ، نفل حج یا ذکر تسبیح یا صدقہ خیرات کر کے یا مسکینوں محتاجوں کو کھلا کر کے، یتیموں غریبوں کو
کپڑا پہنا کر کے یا تلاوت کلام پاک کے ذریعہ یا مسجد و مدرسہ بنوا کر کے یا مخلوق کی نفع رسانی کے

لیے کنواں کھدوا کر یا اس قسم کی رفاہی چیزیں بنوا کر یا مساجد و مدارس میں قرآن مجید یا احادیث و فقہ کی کتابیں دے کر یا کوئی کتاب تصنیف کر کے، غرض ہر طرح کی خیر بھلائی کے کام کا ثواب مردوں کی روحوں کو پہنچایا جاسکتا ہے مگر یہ آزادانہ طریقہ پر نہ ہو، اس کے لیے مخصوص وقت یا طریق مختص نہ کیا گیا ہو، اور نہ اس پر معاوضہ لیا گیا ہو۔

اب تک آپ حضرات قرآن مجید پڑھ کر میت کی روحوں کو بخشے اور تدفین کے بعد قبر پر قرآن کریم پڑھنے کے سلسلے میں فقہائے کبار کے اقوال احادیث کی روشنی میں ملاحظہ فرما چکے ہیں جس پر گویا امت کا اجماع ہے، اس باب میں غیر مقلدین کے انصاف پسند علماء بھی ہمارے ہم خیال ہیں ان کے چند اقوال ملاحظہ کر لیں۔

نواب صدیق حسن خاں بھوپائی کی رائے:

غیر مقلدین کے پیشوا حضرت مولانا نواب صدیق حسن بھوپائی مؤلف ”فتح الباب“ جس کی تلخیص عبدالعزیز سلفی نے ”عقیدہ المؤمن“ کے نام سے کی ہے اس کتاب کے ص ۱۱۶، پر لکھ رہے ہیں ”ہدیہ دعا“ استغفار، تلاوت اور نماز کا اجر بھی (میت) کو ہو چکتا ہے جبکہ یہ سارے کام میت کی طرف سے کیے جائیں، ان کا انکار کرنا شریعت کے مقصد کے خلاف ہے ہاں سوم، چہلم، ششماہی، برسی کرنا بدعت و ضلالت ہے۔ (عقیدہ المؤمن: ۱۱۶)

مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری کی رائے:

غیر مقلدوں کے ایک اور پیشوا مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری فتاویٰ ثانیہ میں لکھتے ہیں: ”هو الموفق:۔ متاخرین علمائے اہل حدیث میں سے محمد بن اسماعیل نے ”سبل السلام“ میں مسلک حنفیہ کو رائج بتلایا ہے یعنی یہ کہا ہے کہ قرأت قرآن اور تمام عبادت بدنیہ کا ثواب میت کو پہنچنا از روئے دلیل کے زیادہ قوی ہے اور علامہ شوکانی نے بھی ”نیل الاوطار“ میں اسی کو حق کہا ہے مگر اولاد کے ساتھ خاص کیا ہے یعنی یہ کہا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے قرأت قرآن یا کسی

عبادت بدنی کا ثواب پہنچانا چاہے تو جائز ہے کیونکہ اولاد کا تمام عمل خیر مالی ہو یا بدنی اور بدنی میں قرأت قرآن ہو یا نماز یا روزہ یا کچھ اور سب والدین کو پہنچتا ہے۔ (فتاویٰ ثانیہ: ۱/۵۳۳)

پھر آگے (۱/۵۳۵) پر لکھتے ہیں۔

”جب علامہ شوکانی اور محمد بن اسماعیل امیر کی تحقیق ایصال ثواب قرأت قرآن و عبادت بدنیہ کے متعلق سن چکے تو اب اخیر میں علامہ ابن النجاشی کی تحقیق بھی سن لینا خالی از فائدہ نہیں“

آپ شرح المنہاج میں فرماتے ہیں:

”ہمارے نزدیک مشہور قول پر قرأت قرآن کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا ہے اور مختار یہ ہے کہ پہنچتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے قرأت قرآن کے ثواب پہنچنے کا سوال کرے، (یعنی یہ کہے یا اللہ اس قرأت کا ثواب فلاں میت کو تو پہنچا دے) اور اس طرح پر قرأت کا ثواب پہنچنے کا جزم (یقین) کرنا لائق ہے اس واسطے کہ یہ دعا ہے پس جبکہ میت کے لیے ایسی چیز کی دعا کرنا جائز ہے جو دعائی کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے لیے ایسی چیز کی دعا کرنا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا جو آدمی کے اختیار میں ہے اور یہ بات ظاہر ہے دعا کا نفع میت کو بالاتفاق پہنچتا ہے اور زندہ کو بھی پہنچتا ہے، نزدیک ہو خواہ دور، اور اس بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں بلکہ افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے“ (فتاویٰ ثانیہ: ۱/۵۳۵، فتاویٰ نذیریہ: ۱/۴۳۱ تا ۴۳۳)

مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری کا آخری فتویٰ:

مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری فتاویٰ ثانیہ میں اپنی آخری تحقیقی رائے پیش فرماتے ہیں:

”قرأت قرآن سے ایصال ثواب کے متعلق بعد تحقیق یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر کے ثواب میت کو بخشے تو اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے بشرطیکہ پڑھنے والا خود بغرض ثواب بغیر کسی رسم و رواج کی پابندی کے پڑھے۔“ از مولانا ثناء اللہ: ۹ جولائی ۱۹۳۳ء۔ (فتاویٰ ثانیہ: ۱/۵۳۶)

دیکھئے اہل حدیث کے وہ علماء جن پر ان کے مذہب کی بنیاد قائم ہے حضرت علامہ شوکانی علامہ ابن النجاشی اور مولانا محمد بن اسماعیل امیر، مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری اور نواب صدیق حسن

بھوپالی ”سب اس مسئلہ پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعہ ایصالِ ثواب کرنا احادیث سے ثابت ہے، شرط یہ ہے کہ بلا اجرت ہو اور بلا تعین وقت ہو، بلا پابندی رسوم کے ہو، کیوں کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں چنانچہ مفتی اعظم ہند فقیرہ انفس حضرت مولانا سید عبدالرحیم صاحب لاچھوری دامت فیوضہم اپنے فتاویٰ رحمیہ: ۱۹۲/۶ پر رقم طراز ہیں۔

”خلاصہ یہ ہے کہ رسوم کی پابندی جیسے ناموری دریا کاری، برادری کا دباؤ مخصوص تاریخ یادوں کی تعین اور لوگوں کو دعوت دے کر اجتماع کا اہتمام والتزام نہ ہو تو میت کے اعزاء و اقارب اور احباب و متعلقین بغرض ایصالِ ثواب قرآن خوانی کر لیں تو گنجائش ہے منع نہیں۔“

(یعنی شرح ہدایہ: ۳/۳۵۶، فتاویٰ رحمیہ: ۱۹۲/۸)

خلاصہ:

ان ساری روایات اور فقہاء و محدثین کی عبارتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ تمام نیک امور کا ثواب خصوصاً قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کی روحوں کو بخشا جاسکتا ہے، اس پر پوری امت کا تعامل تو اتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اگر وہ جنتی ہیں تو ایصالِ ثواب رفع درجات کا ذریعہ بنے گا اور اگر دوزخی ہیں تو ایصالِ ثواب کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہو جائیگی، مگر شرط یہ ہے کہ اصول شرع کے مطابق ہو۔

تنبیہ:

فی زمانہ مسلمانوں میں ایصالِ ثواب کا جو طریقہ رائج ہے کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن مجید سے اور نہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آثارِ صحابہؓ سے، نہ اقوالِ سلف صالحین سے، نہ کسی کے مرجانے کے بعد میت کی زیارت کے نام پر مسنون سمجھتے ہوئے اجرت پر دوسرے یا تیسرے روز تلاوت کلام پاک کا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے اور شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، میرے بھائیو! اس طرح کسی دن کی تعین کر کے پر ایصالِ ثواب کو ضروری قرار دینا غلط ہے،

اور اجرت پر پڑھوانے کا تو کوئی اجر ہی نہیں ہے، یاد رکھیے اس طرح کرنے سے میت کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اجرت پر قرآن مجید پڑھنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملتا، جب پڑھنے والے ہی کو نہیں ملتا تو میت کو کیسے ملے گا؟ چنانچہ ”ہدایہ“ میں ہے۔

ان القرآن بالا جرة لا يستحق الثواب اجرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب لا لمیت ولا للقاری۔
نہ تو میت کو ملے گا نہ قرآن پڑھنے والے کو۔

یہی نہیں بلکہ اس کے بعد دسواں، بیسواں، چالیسواں، سہ ماہی، ششماہی و برسی کر کے دوسری برسی کو شعبان کی عید میں مردوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، خدا جانے ان لوگوں نے یہ تمام چیزیں کہاں سے نکالی ہیں، حالانکہ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے جب کہ اس رسم نے آج مسلمانوں میں عقیدہ کی صورت اختیار کر لی ہے۔

پھر ان ہی لوگوں کو جو جنازہ کی نماز یا زیارت میں شریک ہوتے ہیں تیجہ کی مٹھائی، میوہ جات، دسویں کا نانِ حلوہ، چہلم برسی کی بریانی کھلائی جاتی ہے، یہ سب بس مردے کے نام پر مزے اڑانا ہے جو ہندوؤں کا طریقہ ہے اس لئے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

کبیری میں فتاویٰ بزازی کے حوالہ سے مرقوم ہے:

وفی فتاویٰ البزازی ویکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم او لقراءة سورة الانعام او الاخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الاکل یکرہ . (کبیری: ص ۵۶۵)

”میت کی تدفین کے بعد پہلے دن اور تیسرے دن اور ہفتہ کے بعد دعوت کرنا اور ان ایام میں کھانے کو قبر کے پاس منتقل کرنا اور قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا، یا سورہ انعام و اخلاص کی تلاوت و ختم قرآن کے لیے صلحاء و قراء کو جمع کرنا یہ سب کے سب مکروہ افعال ہیں، خلاصہ یہ کہ قرآن خوانی کے وقت دعوت کا اہتمام کرنا مکروہ ہے اور یہ کراہت صرف کھانے کی وجہ سے آئی ہے“

غلط استدلال:

اور مزید برآں یہ کہ ان تمام رسومات کو بجانہ لانے والوں کو اور ان میں شرکت نہ کرنے والوں کو برا کہا جاتا ہے اور نافرنگی کا اظہار کیا جاتا ہے، بعض لوگ جو از زیارت و تیجہ کے متعلق دلیل میں وہ حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں جسے شیخین نے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو عورت اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کو جائز نہیں کہ کسی کے غم میں تین دن سے زائد سوگ کرے اور بناؤ سنگھار چھوڑ دے ہاں البتہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس پر فرض ہے کہ چار مہینے دس دن (یعنی عدت کے ایام) تک سوگ میں رہے اور سنگھار چھوڑ دے“، آپ خود سوچئے اس روایت کا ان حرکتوں کے جواز سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟

مفتی اعظم ہند، فقیہ المنس حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاچپوری دامت فیوضہم نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کا فتویٰ نقل فرمایا ہے:

”مقرر کردہ دن روز سوم وغیرہ بالتخصیص و اور ضروری انگاشتن در شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نیست، صاحب ”نصاب الاحساب“ آنرا مکروہ نوشتہ، رسم و راہ تخصیص بگذارند و ہر روز یکہ خواہند ثواب بروح میت رسانند۔“ (مجموعہ فتاویٰ: ۶۸/۳، فتاویٰ رحیمیہ: ۱۹۲/۸)

”یعنی تیسرے روز یا دیگر ایام کی تخصیص و تعیین اور اسے ضروری اور لابدی سمجھنے کا ثبوت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، ”صاحب نصاب الاحساب“ نے اسے مکروہ کہا ہے، رسم کے طور پر مخصوص ایام کی تعیین کو ترک کر دے اور دوسرے کسی دن میں ایصال ثواب کرے۔

معلوم ہوا کہ سادہ انداز سے بلا کسی رسم و رواج کے اور بلا اجرت قرآن خوانی، ذکر، تسبیح وغیرہ کا ثواب اخلاص نیت کے ساتھ میت کی روح کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ مرحوم کو ضرور ثواب پہنچے گا، کیونکہ اگر اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو کوئی عمل ضائع نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔